

بمقام شاعت بک دارالسلام ممبئی

دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور
کراچی • لندن • ہیومن • نیویارک



سعودی عرب (ہیڈ آفس)

پوسٹ بکس: 22743 الریش 11416 سعودی عرب فون: 4033962-14043432-00966

E-mail: darussalam@awalnet.net.sa 4021659: فیکس

Website: www.dar-us-salam.com

1 4614483: فون 00966 4644945: فیکس

2 4735220: فون 00966 4735221: فیکس

3 6879254: فون 00966 6336270: فیکس

4 503417155: فون 00966 8151121: فیکس

5 8691551: فون 00966 3 8692900: فیکس

6 5632623: فون 00971 6 0603 77109750: ملائیشیا

7 5632624: فیکس 77100749: فیکس

8 85394885: فون 0044 20 00852 23692722: لندن

9 50217645: فیکس 23692944: فیکس

10 7220419: فون 001 713 6255925: امریکہ

11 7220431: فیکس 6251511: فیکس

پاکستان (ہیڈ آفس و مرکزی شوروم)

36- لوزال، کیریزٹ ٹاپ، لاہور

111023-7110081-7232400-7240024-0092: فیکس 7354072: فون

Website: www.darussalampk.com E-mail: info@darussalampk.com

2 7120054: فون 7320703: فیکس

3 4393936: فون 0092-21-4393937: فیکس

4393937: فون 0092-21-4393936: فیکس
Email: darussalamkhi@darussalampk.com

بیتنا

تفسیر حسن الکلام (اردو)

صحیح بخاری تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی کے مجموعہ

انتخاب

ڈاکٹر محمد حسین خان
محقق

ترجمہ قرآن

شعبہ تصنیف، ایف دارالسلام

امتار

عبدالمالک بن محمد بن محمد بن



دارالسلام

کتاب و سنت کی اشاعت کا عالمی ادارہ
ریاض • جدہ • شارجہ • لاہور
کراچی • لندن • ہیومن • نیویارک

عرض ناشر

علم وحی شروع ہی سے انسانی ہدایت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام اسی سلسلہ وحی کی تشریح و تفسیر کے لیے مبعوث کیے جاتے رہے۔ قرآن مجید اسی سلسلہ وحی کا نقطہ اختتام ہے۔ انسانی ہدایت کا یہ آخری صحیفہ ہے جس کی ہدایات کی توضیح، تشریح اور تفسیر کا لوازمہ نقوش سنت میں محدثانہ طریق پر محفوظ کیا گیا ہے، یہی باعث ہے کہ امت مسلمہ کے اکابر علماء اور مفسرین نے ہر دور میں قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کی سعادت کو حاصل کیا ہے۔ عہد حاضر میں تفسیر ماثورہ کی قدیم روایت کو جدید اسلوب میں پیش کرنے کا امتیاز دارالسلام کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کے علوم اور تفسیری مباحث کے لیے اس ادارے کی خدمات کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مقبولیت عطا کی ہے۔ دارالسلام کی طرف سے اب تک عربی، انگریزی، ہندی، بنگلہ، پشتو، سپانوی، فرنج، البانوی اور مالاباری زبان میں تراجم و حواشی کا کام مقبول ہو چکا ہے۔ جبکہ روسی، فارسی اور ترکی زبان میں تراجم کا کام آخری مراحل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اردو زبان میں بھی دارالسلام کی دو مختصر تفاسیر کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے۔

دارالسلام کی ترجمہ و حواشی میں اولین کوشش انگریزی زبان میں ”دی نو بل قرآن“ کی صورت میں ہوئی ہے۔ اس مختصر تفسیر کی تکمیل کی سعادت اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر تقی الدین الہلالی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈاکٹر محمد حسن خاں رحمۃ اللہ علیہ کو عطا کی۔ دور حاضر میں یہ انگریزی زبان میں

